



BRAMPTON

Service and Information Update

برامپٹن میں فیملی ڈے 2020

برامپٹن، آن (11 فروری 2020) – فیملی ڈے کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی کی فیملیز کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں!

اس سال، فیملی ڈے بروز پیر، 17 فروری 2020 کو ہو رہا ہے، لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

برامپٹن سٹی ہال فیملی ڈے پر بند رہے گا۔ شہری اس وقت کے دوران خود آ کر شادی کے لائسنس کے لیے درخواست دینے، عدالتی شادی کی تقریبات بک کرنے، غلط پارکنگ پر جرمانہ بھرنے یا پرمٹس کے لیے درخواست دینے یا کاروباری لائسنسز کی تجدید کروانے یا درخواست دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔

کئی خدمات معمول کے مطابق کام کرنا جاری رکھیں گی، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سٹی آف برامپٹن ہائی لاء انفورسمنٹ اور انیمل کنٹرول۔

کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے رہائشی 311 پر یا 905.874.2000 (برامپٹن کے باہر سے) پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ برامپٹن 311 ایپ (ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے) یا بذریعہ ای میل 311@brampton.ca بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے کسی قسم کے بھی معاملات کے لیے 24/7 دستیاب ہیں، بشمول پارکنگ، کچرا اکٹھا کرنا، تفریحی پروگرام وغیرہ۔

برامپٹن ٹرانزٹ

فیملی ڈے کے موقع پر برامپٹن ٹرانزٹ، سنڈے/ہالیڈے سروس فراہم کرے گی۔ ہمارے ٹرمینلز پر کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند رہیں گے۔

روٹ اور شیڈول کی معلومات کے لیے، 905.874.2999 پر کال کریں یا www.bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔ اگلی بس کے براہ راست اوقات کی معلومات کے لیے اپنے اسمارٹ فون یا دیگر موبائل ڈیوائس پر nextride.brampton.ca ملاحظہ کریں۔ سفر کی منصوبہ بندی کے دیگر ٹولز کے لیے www.triplinx.ca یا گوگل میپس ملاحظہ کریں۔

برامپٹن ریکرینیشن

فیملی ڈے کے موقع پر اپنے قریبی کمیونٹی سنٹر میں تشریف لائیں، مختلف دلچسپیوں اور خاندان دوست سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سرگرمیوں کا مکمل شیڈول آن لائن دیکھنے کے لیے www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔

برامپٹن اینیمل سروسز

برامپٹن اینیمل شیلٹر فیملی ڈے کے موقع پر بند رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے 905.458.5800 یا 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca/animalservices ملاحظہ فرمائیں۔

برامپٹن لائبریری

فیملی ڈے کے موقع پر برامپٹن لائبریری کی تمام شاخیں بند رہیں گی۔ اپنے فیملی ڈے کے حصے طور پر، موویز اور موسیقی اسٹریم کر کے آزمائیں یا کوئی ای بُک پڑھیں۔ ہماری ڈیجیٹل مصنوعات، پروگراموں اور خدمات کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.bramptonlibrary.ca ملاحظہ کریں یا 905.793.4636 پر کال کریں۔



BRAMPTON

Service and Information Update

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca